



آسٹریلیا نے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی

- پاکستان کی جانب سے افتخار احمد کے 45 رنز
- ایرون فنچ اور ڈیوڈ وارنر کے درمیان 109 رنز کی ناقابل شکست شراکت

لاہور، 8 نومبر 2019ء:

آسٹریلیا نے پاکستان کو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 0-2 سے جیت لی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم نے مطلوبہ ہدف بغیر کسی وکٹ کے نقصان 12ویں اوور میں مکمل کر لیا۔

اس سے قبل پر تھ میں کھیلے گئے ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹریلیا کے کپتان ایرون فنچ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو مؤثر ثابت ہوا۔ 15 کے مجموعی اسکور پر پاکستان کے ابتدائی 2 کھلاڑی آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ تیسری وکٹ کے لیے افتخار احمد اور امام الحق کے درمیان 32 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ افتخار احمد 45 اور امام الحق 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے علاوہ پاکستان کی جانب سے کوئی کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکا۔ افتخار احمد اور امام الحق کے پویلین واپس لوٹنے ہی قومی بیٹنگ لائن اپ ایک بار پھر لڑکھڑا گئی اور مہمان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر محض 106 رنز کا مجموعہ ہی بنا سکی۔ آسٹریلیا کی جانب سے کین رچرڈسن نے 3 جبکہ شان ایبٹ اور مچل اسٹارک نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

107 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم کی جانب سے ڈیوڈ وارنر اور ایرون فنچ نے کریز سنبھالتے ہی پراعتماد کھیل کا مظاہرہ کیا اور ناقابل شکست رہتے ہوئے مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا نے 11.5 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 109 رنز بنائے۔ کپتان ایرون فنچ نے 36 گیندوں پر 52 اور ڈیوڈ وارنر نے 35 گیندوں پر 48 رنز بنائے۔

میچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے پر شان ایبٹ کو مین آف دی میچ کا انعام دیا گیا۔

آسٹریلوی کپتان اسٹیو سمتھ کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk